

برائے فوری اجراء

## کونسل ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں ریٹرنس کو دوام بخشنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے

**برامپٹن کو سائبرسیکورٹی کا دارالخلافہ بنانے کا ویژن سٹی میں  
جدت اور ملازمتوں کی تخلیق کے عمل کو تیز کرے گا**

برامپٹن، آن (13 فروری 2019) - ریٹرنس یونیورسٹی اور سٹی آف برامپٹن کے درمیان اشتراک کی وجہ سے کچھ پرجوش پیش قدمیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ آج، برامپٹن کمیٹی آف کونسل نے عملے کو ریٹرنس یونیورسٹی کے ساتھ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ (MoU) قائم کرنے کی ہدایت دینے کے لیے ایک قرارداد پیش کی، جس میں ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں ریٹرنس یونیورسٹی کی قیادت میں انوویشن ہب اور سائبرسیکیور کیٹالسٹ کے قیام کے لیے مطلوبہ فنڈنگ اور وسائل کا خاکہ تیار کیا جائے گا۔ یہ قرار توثیق کے لیے اگلے ہفتے کونسل کے پاس جائے گی۔

سائبرسیکیور کیٹالسٹ اور پائلٹ انکیوبیشن ہب/انوویشن ہب کے لیے معاشی مضمرات اور فنڈنگ سٹی کے 2019 کے بجٹ میں غور و خوض کا حصہ ہوں گی، جو 18 مارچ کو شروع ہوں گی۔

یہ قرارداد گلین کرینی، ڈپٹی پرووسٹ اور وائس پرووسٹ، یونیورسٹی پلاننگ، ریٹرنس یونیورسٹی، کی جانب سے برامپٹن کو کینیڈا میں سائبرسیکورٹی کا دارالخلافہ بنانے کے لیے یونیورسٹی کے ویژن کے متعلق پریزینٹیشن کے بعد آئی ہے۔ اس ویژن میں شامل ہے:

- **چینگ اسکول کی پیشکشوں کو بڑھانا:** اس سال کے آغاز پر، چینگ اسکول آف کانٹینیوئنگ ایجوکیشن نے سائبرسیکورٹی کے دو کورسز کا آغاز، جن کا برامپٹن سٹی ہال ویسٹ ٹاور میں انعقاد کیا جاتا ہے۔ مکمل سرٹیفیکیٹ کے پروگراموں کی پیشکش کرنے کے لیے پروگرام بھی زیر عمل ہیں۔
- **برامپٹن انوویشن ہب کا آغاز:** برامپٹن انکیوبیشن/انوویشن ہب بھی ویسٹ ٹاور کے اندر واقع ہو گی اور اس کے لیے جگہ کی تجدید مکمل ہونے والی ہے۔ ریٹرنس یونیورسٹی، جو "DMZ"، ابتدائی مرحلوں میں ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس کے لیے یونیورسٹی کی قیادت میں دنیا کا بہترین انکیوبیٹر چلاتی ہے، جدت اور اسٹارٹ اپ زونز میں ایک جانی مانی رہنما ہے۔
- **سائبرسیکورٹی کیٹالسٹ کا آغاز:** سائبرسیکورٹی کیٹالسٹ کو سائبرسیکورٹی میں جدت اور اشتراک کا نیا قومی مرکز بنانے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ سائبر کرائم کی وجہ سے کمپنیوں کو عالمی طور پر \$6 ٹریلین کا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اور اس سال کے اختتام تک تقریباً 1.5 ملین خالی ملازمتیں موجود ہوں گی، یہ سنٹر پیشہ وارانہ تربیت، تحقیق و ترقی، کاروباری انکیوبیشن اور عوامی تعلیم فراہم کر کے سائبرسیکورٹی کا ہب ہو گا۔

### اقتباسات

"یہ برامپٹن کے لیے آگے بڑھنے کا بے حد پرجوش اقدام ہے، جو ریٹرنس یونیورسٹی کے ساتھ اہم پراجیکٹس کو حقیقت کے قریب لے جا رہا ہے۔ یہ پراجیکٹس ہماری معاشی ترقی کو تیز کرنے، ملازمتیں تخلیق کرنے اور برامپٹن کو سائبرسیکورٹی کے ہب کے طور پر سامنے لانے میں مدد دیں گے۔ ہمارے بعد از ثانوی طلباء کے پاس اب کسی ایسے شعبے میں جانے کا موقع موجود ہو گا جو عالمی طور پر درکار ہے اور وہ ایک اہم، عالمی شہر کے طور پر ہمارے مقام کو مضبوط کر سکیں گے۔"

- میئر پیٹرک براؤن

"ریٹرنس سٹی آف برامپٹن اور شیریڈن کالج میں اپنے شراکت داروں کے لیے پوری طرح وقت شدہ ہے، تاکہ برامپٹن میں تعلیمی انتخابات اور جدت اور انٹرپرائیوٹرشپ میں مواقع تک رسائی کو بڑھانے میں مدد دی جا سکے۔ یہ دونوں چیزیں شہر کو معاشی طور پر آگے بڑھائیں گی اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم ان مواقع کو برامپٹن میں لانے کے لیے معاونت، رہنمائی اور مہارتیں فراہم کر رہے ہیں۔"

- گلین کرینی، ڈپٹی پرووسٹ اور وائس پرووسٹ یونیورسٹی پلاننگ، ریٹرنس یونیورسٹی

-30-

برامپٹن پڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

**میڈیا کنٹیکٹ**

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)